

# وَتُرْكَانُ دُعَائِيْل

## مُنَاجَاتٍ ابْنِيَا وَصَاحِبِيْنَ

ترجمہ آیات

جسٹ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

جمع و ترتیب

مفتی غیرہ اور

استاذ خاص معلم اسلامیہ علماء بنوری نادن کراچی

Banuri  
بنزی



حَسَنَ الْمَرْحُونُ

الْمَلِكُ الْعَظِيمُ الْمُجْدُ الْمُبِينُ  
الْمُهَمَّدُ الْمُبَارَكُ الْمُبِرَّ الْمُغْفِرَ

إِلَهُ صَلَّى عَلَيْهِ سَلَّمَ مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ

جُمَلَةُ حُقُوقِ بَحْرَنَى شَرْحُ مُفْظَّبَيْنَ

٢٠١٧

١٤٣٨



Contact: رابطه:  
[Banuripublishers@gmail.com](mailto:Banuripublishers@gmail.com)

# وْرَكَنُ دُعَائِئْ

## مُنَاجَاتٌ ابْنِيَا وَصَاحِبِينَ

قرآن کریم میں امت کو تعلیم دی گئیں انبیاء کرام اور اہل ایمان کی دعا و کام جو سچے

ترجمہ آیات

جسٹ (حضرت مولانا) مفتی محمد تقی غوثی صاحب

جمع و ترتیب  
مفتی غوثی صاحب  
آنور  
استاذ حجامت عالمہ علامہ بنوری ماؤن کراچی

Banuri  
بنوری



## عرض مرتب

نحمدہ و نصلی و نسلّم علی رسولہ الکریم ، امّا بعد :

پیش نظر کتاب کلام الہی یعنی قرآن کریم میں موجود دعاوں کا مجموعہ ہے، پہلا حصہ ”مناجات انبیاء“ ان دعاوں پر مشتمل ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانی قرآن کریم میں امت کو تعلیم دی گئیں، جبکہ دوسرا حصہ ”مناجات صالحین“ میں قرآن کریم کی وہ دعا ہیں جو اللہ کے نیک، صالح اور مقبول بندوں کی زبانی اُمت کو سکھائی گئیں ہیں۔

ان دعاوں کے الفاظ اور معانی سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے کس طرح مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ نے ان کی فریاد اور دعا کو سن کر کس طرح نجات دی، انبیاء اور صالحین کی دعا ہمیں درحقیقت انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور مالک حقیقی کے ساتھ صحیح رابطہ قائم کرنے کے طریقہ کی تعلیم ہے، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی ان دعاوں کی تلاوت اور حفظ کر کے روزمرہ کی زندگی میں پڑھتے رہنا چاہئے۔

## قرآنی دعائیں

6

بے شک قرآنی دعائیں اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بہت عظیم برکات سمجھتے ہیں، ایک طرف تو یہ قرآن کریم کے حفظ اور اس کی تلاوت کا اجر پاتے ہیں، جس کے حرف حرف پر ثواب ہے، دوسری جانب دعا کرنا بذات خود ایک سعید عمل ہے کہ یہ عبادت کا مغزا اور جو ہر ہے، تیسرا بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ کی عظیم برکات میں سے ایک سکون قلب ہے، ساتھ ہی ان دعاوں کے ذریعے قرآن کریم سے ربط و تعلق پیدا کرنے کی ایک کوشش بھی ہے، اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں، اس مجموعہ میں قرآنی آیات کا ترجمہ حضرت ماموں محترم شیخ الاسلام جسمیں (ر) مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد کے مشہور و مقبول ”آسان ترجمہ قرآن“ سے لیا گیا ہے۔

دُعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

### محمد عمر انور

استاذ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ یوسف بنوری ٹاؤن

خادم جامع مسجد قبا، گلشنِ اقبال، کراچی

[umarananwer@gmail.com](mailto:umarananwer@gmail.com)

## فہرست مضمایں

5.....	عرض مرتب
7.....	فہرست مضمایں
	<b>مناجات انبیاء علیہم السلام</b>
15.....	کامل اور جامع ترین دعا
	حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی دعا
16.....	طلب مغفرت و رحمت کی دعا
	حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں
17.....	سواری کی دعا
17.....	لام علم امور کے سوال سے بچنے اور بخشش و رحمت کی دعا

## قرآنی دعائیں

8

- جھوٹے الزام و مقدمہ میں فتح اور باعزت نجات پانے کی دعا.....18  
سفر اور نئے شہر میں حفاظت و برکت کی دعا.....18  
بے بسی کے وقت مدد کی دعا.....19  
والدین، تمام اہل ایمان اور اپنے لیے مغفرت کی دعا.....19  
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں  
امن و سلامتی اور رزق میں برکت کی دعا.....20  
عمل کی قبولیت کے لیے دعا.....20  
اولاد کی فرمانبرداری اور توبہ کی قبولیت کی دعا.....20  
انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا.....21  
امن و سلامتی اور شرک سے بچنے کی دعا.....22  
قبولیت اور رزق میں برکت کی دعا.....22  
نماز کی پابندی، والدین اور تمام مسلمانوں کیلئے مغفرت کی دعا.....23  
حکمت و دانتائی کے حصول اور صالحین میں شمولیت کی دعا.....23

## قرآنی دعائیں

9

قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر اور حصول جنت کی دعا.....24

قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا.....24

نیک اولاد کے حصول کی دعا.....24

کفار کے شر سے بچاؤ اور طلب مغفرت کی دعا.....25

## حضرت لوط علیہ السلام کی دعائیں

مفسدین کے مقابلے میں مدد و نصرت کی دعا.....26

عملوں کے برے اثرات سے نجات کی دعا.....26

## حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں

مکر، فریب، برائی اور فتنوں سے بچاؤ کی دعا.....27

حالات اسلام پر موت اور صاحبین میں شمولیت کی دعا.....27

## حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا

فتح اور حق کے فیصلے کی دعا.....28

## حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں

## قرآنی دعائیں

10

- اپنی اور اپنے بھائی کیلئے بخشش و رحمت کی دعا ..... 29.....  
معفرت، رحمت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا ..... 29.....  
شرح صدر، کاموں میں آسانی اور زبان میں تائیر کی دعا ..... 30.....  
محافی اور بخشش کی دعا ..... 30.....  
ادائے شکر اور مجرموں کا مددگار بننے سے احتساب کی دعا ..... 30.....  
طالموں سے نجات کی دعا ..... 31.....  
ہدایت کے حصول کی دعا ..... 31.....  
خیر اور رزق کے حصول کی دعا ..... 31.....  
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا  
نعمتوں پر شکر، نیک اعمال کی توفیق اور صالحین میں شمولیت کی دعا ..... 32.....  
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا  
بیماری اور تکلیف کو دور کرنے کی دعا ..... 33.....  
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا

## قرآنی دعائیں

11

آزمائش سے نجات حاصل کرنے کی دعا.....	33.....
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں	
پاکیزہ اولاد کے حصول کی دعا .....	34.....
تمہاری سے نجات اور بہتر وارث پیدا ہونے کی دعا.....	34.....
آخری عمر میں نیک اولاد کے حصول کی دعا.....	34.....
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	
خوشی اور رزق میں برکت کی دعا.....	36.....
گمراہوں کے لیے بخشش کی دعا.....	36.....
حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعائیں	
حصول غلبہ و قوت اور رزق میں کشاوگی کی دعا.....	37.....
کاموں میں آسانی اور اللہ پر توکل کی دعا.....	38.....
والدین کے لیے رحمت کی دعا.....	38.....
آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا.....	38.....

## قرآنی دعائیں

12

علمی ترقی کی دعا.....

حق فیصلہ طلب کرنے کی دعا.....

عذاب الہی اور ظالموں سے بچنے کی دعا.....

برے خواب اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا.....

## مناجات صاحبین

دنیا و آخرت کی بھلائی اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ کی دعا.....

صبر، ثابت قدمی اور طلب نصرت کی دعا.....

آیت اکریں.....

إطاعت و مغفرة کی دعا.....

انتہائی جامع ترین دعا.....

گمراہی سے بچنے اور طلب رحمت کی دعا.....

گناہوں کی بخشش اور عذاب سے بچنے کی دعا.....

اقرار ایمان، اتباع رسول اور حق کی شہادت

## قرآنی دعائیں

13

45.....	دینے والوں کے ساتھ کی دعا
46.....	گناہوں کی معافی، صبر، ثابت قدمی اور طلب نصرت کی دعا
46.....	اللہ کی کفایت اور وکالت کے حصول کی دعا
47.....	دوخ کے عذاب اور رسولی سے بچاؤ کی دعا
47.....	گناہوں سے معافی اور نیک انجام کی دعا
48.....	وعدہ الہی کی تمجیل اور روز قیامت رسولی سے بچنے کی دعا
48.....	ظالم کے ظلم سے بچنے اور طلب نصرت کی دعا
49.....	حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ کی دعا
49.....	ظلم سے بچنے کی دعا
49.....	صبر ثابت قدمی اور فرمابرداری کی دعا
50.....	ظالم قوم کے فتنہ سے بچنے کی دعا
50.....	کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی دعا
51.....	بخشش اور رحمت کی دعا

## قرآنی دعائیں

14

رحمت و مغفرت کے حصول کی دعا.....	51
جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا.....	51
بیوی پھوپھوں کی ٹھنڈک اور اچھانمود و سر برآہ بننے کی دعا.....	52
فرشتوں کی اہل ایمان کے حق میں مغفرت، حصول جنت	
برائی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا.....	52
شکرِ نعمت، اعمال صالح کی توفیق اور اولاد کی إصلاح کی دعا.....	53
سواری پر سوار ہونے کی دعا.....	54
اہل ایمان اور اپنے لیے بخشش اور کینہ و بغض دور کرنے کی دعا.....	54
روحانی ترقی اور مغفرت و بخشش کی دعا.....	55
حصول جنت کی دعا.....	55
ہر قسم کے جسمانی، روحانی، ظاہری و باطنی امراض کیلئے آیات شفاء.....	56
جادو، نظر بد، حسد اور ہر قسم کے برے اثرات سے حفاظت کیلئے.....	57
خاتم۔	59

## مناجات انبیاء علیہم السلام

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے

---

کامل اور جامع ترین دعا

---

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

---

تمام تحریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہاںوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے

---

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

---

جوروز جزا کا مالک ہے (اے اللہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجویزی سے مدد مانگتے ہیں

**إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ**

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماء، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ ان

**عَلَيْهِمْ لَا غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالُّ لَهُمْ ۝**

لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ انکے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں (سورہ فاتحہ)

## حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی طلب مغفرت و رحمت کی دعا

**رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنَا سَكِّتَتْ وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا**

اے ہمارے پروردگار! ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا

**لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ** [الاعراف: ۲۳]

اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نام اولوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں

### سواری کی دعا

**بِسْمِ اللّٰهِ هَجْرُهَا وَمُرْسِدُهَا طَإِنَّ رَبِّيْ**

اس کا چنان بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے اور انگریزی میں رکھو کہ میرا پروردگار

**لَغُفُورُرَّ حَيْمٌ** [ہود: ۴۱]

بہت بخشش والا براہمہ بان ہے

لام امور کے سوال سے بچنے

اور بخشش و رحمت کی دعا

**رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ط**

پروردگار! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جو کام مجھے علم نہیں اور اگر

**وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِّنَ الْخَسِيرِ بَيْنَ** [ہود: ۴۷]

آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بر باد ہو گئے

بِحَوْلَةِ الرَّزْمِ وَمِقدَمَهُ مِنْ فَتْحٍ  
أَوْ بِاعْزَتِ نَجَاتٍ پَانِيَ کی دُعا

**رَبِّ انْصُرْنِی إِمَّا كَذَّابِوْنَ** [المؤمنون: ۲۶]

پروردگار! ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنا�ا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما

**رَبِّ إِنَّ قَوْمَى كَذَّابِوْنَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَّحًا**

میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دلوک

**وَنَجِنِي وَمَنْ مَعِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ** [الشعراء: ۱۱۷، ۱۱۸]

فیصلہ کرو بیکیے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجیے

**سُفَرَاوْ نَنْتَ شَهْرَ مِنْ حَفَاظَتِ وَبِرَكَتِ کِی دُعا**

**رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُلِّبَرَّ كَأَوْ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِيْنَ** [المؤمنون: ۲۹]

یا رب! مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اثار نے والا ہے

## بے بسی کے وقت مدد کی دعا

**آئٰ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ** [القمر: ۱۰]

میں بے بس ہو پکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجیے

والدین، تمام اہل ایمان  
اور اپنے لیے مغفرت کی دعا

**رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالدَّىْ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَنِيْ مُؤْمِنًا**

پروردگار امیری بھی بخشش فرمادیجیے میرے والدین کی بھی اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں

**وَلِلَّهِ مُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ** [نوح: ۲۸]

ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے اور تمام مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی بھی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں

### امن و سلامتی اور رِزق میں برکت کی دعا

**رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرِّ**

اے میرے پروردگار! اس کو ایک پرمیان شہر بنادیجیے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور

**مَنْ أَمْنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** [البقرة: ١٢٦]

یوم آخرت پر ایمان لا سکیں انہیں قسم قسم کے بچلوں سے رزق عطا فرمائیے

### ہر عمل کی قبولیت کے لیے دعا

**رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** [البقرة: ١٢٧]

اے پروردگار! ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے بیشک تو ہی ہر ایک کی سنبھالے والا ہر ایک کو جانے والا ہے

### اولاد کی فرمانبرداری اور توبہ کی قبولیت کی دعا

**رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً**

ہمارے پروردگار! ہمیں اپنا کامل فرمانبردار بنائے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کرو جو تیری

## قرآنی دعائیں

21

**مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرَنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ**

پوری تابعدار ہو اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے پیش ک

**أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ** [البقرة: ١٢٨]

صرف تو ہی معاف کر دینے کا خواگر بڑی رحمت کا مالک ہے

### انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا

**رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّا عَلَيْهِمْ**

ہمارے پروردگار! ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جوان کے سامنے

**أَيْتَكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُنَزِّلُهُمْ**

تیری آئیوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے

**إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** [البقرة: ١٢٩]

پیش کر صرف تیری ہی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل

## امن و سلامتی اور شرک سے بچنے کی دعا

**رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ**

یا رب! اس شہر کو پر امن بنا دیجیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ

**نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ** [ابراهیم: ۳۵]

ہم بتوں کی پرستش کریں

## قبولیت اور رزق میں برکت کی دعا

**رَبَّنَا إِنَّمَا أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ**

اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی

**عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ**

وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھینچنیں ہوتی، ہمارے پروردگار! (یہ میں نے اس لیے کیا)

**فَاجْعَلْ أَفْيَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيَّ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ**

تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے، اور ان کو چھلوٹ

**مِنَ الشَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ** [ابراهیم: ۳۷، ۳۸]

کارزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکرگزار بین

اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی  
والدین اور تمام مسلمانوں کیلئے مغفرت کی دعا

**رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي**

یا رب! مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی (ایسے لوگ پیدا فرمائے

**رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَ**

جونماز قائم کریں) اے پروردگار! اور میری دعا قبول فرمائیجیے، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن

**وَلِلْيَوْمِ الْحِسَابِ** [ابراهیم: ۴۰، ۴۱]

میری بھی مغفرت فرمائیے میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں

**حَكْمَ وَ دَانَاتِيَ كَهْ حَصُولُ اَوْ صَاحِلِينَ مِنْ شَمْوَلِيَتِي كَهْ دَعَا**

**رَبِّ هَبِ لِي حُكْمًا وَ الْحِقْنَى بِالصَّلِحِيَّنَ** [الشعراء: ۸۳]

میرے پروردگار! مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائے

**قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر اور حصول جنت کی دعا**

**وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأَخْرِيْنَ**

اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرمادے جو میری سچائی کی گواہی دیں

**وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ** [الشعراء: ٨٤-٨٥]

اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے

**قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا**

**وَلَا تُخَزِّنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ**

اور اس دن مجھے رسوانہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائیگا، جس دن نہ کوئی مال کام آئیگا

**إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيْمٍ** [الشعراء: ٨٧-٩٠]

نہ اولاد، ہاں! جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا گا (اسکونجات مل گی)

**نیک اولاد کے حصول کی دعا**

**رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِيْحِيْنَ** [الصافات: ١٠٠]

میرے پروردگار! مجھے ایک ایسا بیٹا دیں جو نیک لوگوں میں سے ہو

## کفار کے شر سے بچاؤ اور طلب مغفرت کی دعا

**رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ آنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ**

اے ہمارے پروردگار! آپ ہی پرہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ

**رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا**

ہی کی طرف سب کلوٹ کر جانا ہے، اے پروردگار! ہمیں کافروں کا تحفظ مشن نہ بنایے اور ہمارے پروردگار!

**إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** [المتحن: ٤، ٥]

ہماری مغفرت فرمادیجیے، یقیناً صرف آپ ہی کی ذات وہ ہے جسکا اقتدار بھی کامل ہے جسکی حکمت بھی کامل

## حضرت لوط علیہ السلام کی دعائیں مفسدین کے مقابلے میں مدد و نصرت کی دعا

---

**رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ** [العنکبوت: ٣٠]

---

میرے پروردگار! ان مفسدوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے

---

بد عملوں کے برے اثاث سے نجات کی دعا

---

**رَبِّ نَجِّنِي وَآهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ** [الشعراء: ١٦٩]

---

پروردگار! جو حکمتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھروں کو ان سے نجات دیدے

حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں

مکر، فریب، برائی اور فتنوں سے بچاؤ کی دعا

**رَبِّ السِّجْنٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ جَهَنَّمًا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ**

یا رب! یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں، اسکے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند

**وَإِلَّا تَصِرُّفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ**

ہے، اور اگر تو نے مجھے انکی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی انکی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ

**وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيِّينَ** [یوسف: ۳۳]

جهالت کے کام کرتے ہیں، ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا

حالت اسلام پر موت اور صالحین میں شمولیت کی دعا

**فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌ فِي الدُّنْيَا**

آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوا لا ہے مجھے اس

**وَالْأُخْرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنَى بِالصَّلِحِيِّينَ** [یوسف: ۱۰۱]

حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا

## حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا فتح اور حق کے فیصلے کی دعا

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ط

ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ

اے ہمارے رب ! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمادے اور تو ہی

خَيْرُ الْفَتَحِينَ [الاعراف: ۸۹]

سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں  
اپنی اور اپنے بھائی کیلئے بخشش و رحمت کی دعا

**رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ**

پروردگار! میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرمادے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے

**وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ** [الاعراف: ۱۵۱]

تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

**مغفرت، رحمت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا**

**أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِيرِينَ**

آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں اس لیے ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے بیٹک آپ

**وَأَكُتبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ**

سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی

**[إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ]** [الاعراف: ۱۵۵، ۱۵۶]

بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی، ہم (اس غرض کیلئے) آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں

## شرح صدر، کاموں میں آسانی اور زبان میں تاثیر کی دعا

**رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً**

پروردگار! میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے، اور میرے لیے میرا کام آسان بنادیجیے، اور میری

**فِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي** [طہ: ۲۵ تا ۲۸]

زبان میں جوگہ ہے اسے دور کر دیجیے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں

## معافی اور بخشش کی دعا

**رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي** [القصص: ۱۶]

پروردگار! میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا آپ مجھے معاف فرمادیجیے

## ادائے شکر اور مجرموں کا مددگار بننے سے اجتناب کی دعا

**رَبِّ يَمَّا آنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ**

پروردگار! آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ بھی مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا [القصص: ۱۷]

## ظالموں سے نجات کی دعا

رَبِّنَا مُنْجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ [القصص: ٢١]

میرے پروردگار! مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے

## ہدایت کے حصول کی دعا

عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ [القصص: ٢٢]

مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا

## خیر اور رزق کے حصول کی دعا

رَبِّنَا إِنِّي لِهَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ [القصص: ٢٤]

میرے پروردگار! جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا  
 نعمتوں پر شکر، نیک اعمال کی توفیق  
 اور صالحین میں شمولیت کی دعا

**رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الْتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ**

میرے پروردگار! مجھے اس بات کا پابند بنادیجیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے

**وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَهُ وَ أَدْخِلْنِي**

اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت

**بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ [آلہل: ۱۹]**

سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیجیے

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا  
بیماری اور تکلیف کو دور کرنے کی دعا

---

**إِنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحْمَةِ** [الانبیاء: ٨٣]

مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

---

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا  
آزمائش سے نجات حاصل کرنے کی دعا

---

**لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ**

---

(یا اللہ!) تیرے سوا کوئی معنوں میں تو ہر عیب سے پاک ہے بیٹک میں قصور و ازوں [الانبیاء: ٨٧]

---

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں

### پاکیزہ اولاد کے حصول کی دعا

**رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً**

یارب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمادے

**إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ** [آل عمران: ۳۸]

بیشک تو دعا کا سنتے والا ہے

### تمہانی سے نجات اور بہتر وارث پیدا ہونے کی دعا

**رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثَيْنَ** [الأنبیاء: ۸۹]

یارب! مجھے اکیلانہ چھوڑ دیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں

### آخری عمر میں نیک اولاد کے حصول کی دعا

**رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبَنَا**

پورا گار! میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے اور

وَلَمَّا كُنْتُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِذْ خَفْتُ الْهَوَالَىٰ

پروردگار! میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامرد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا

مِنْ وَرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرَّا فَهَبْ لِيْ مِنْ

اندیشہ رک گا ہوا ہے اور میری بیوی با نجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث

لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ

عطای کرد تبھی جو میرا بھی وارث ہو، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا [مریم: ۶۴]

اور یا رب! اسے ایسا بنائیے جو (خود آپ کا) پسندیدہ ہو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں

خوشی اور رزق میں برکت کی دعا

**اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنِّيْلُ عَلَيْنَا مَا إِدَّةٌ مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ**

یا اللہ! ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجیے جو ہمارے لیے اور ہمارے الگوں اور پچھلوں کیلئے

**لَنَا عِيدًا لِّأَوْلَنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَآنْتَ**

ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یعنی عطا فرمائیں

**خَيْرُ الرُّزْقِينَ** [المائدۃ: ۱۱۴]

دیجیے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں

گمراہوں کے لیے بخشش کی دعا

**إِنْ تُعَذِّلْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ**

اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں ہی، اور اگر آپ انہیں معاف فرمادیں تو یہیں

**أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** [المائدۃ: ۱۱۸]

آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعائیں

## حصول غلبہ و قوت اور رزق میں کشادگی کی دعا

---

**اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ**

---

اے اللہ! اے اقتدار کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشنا ہے، اور جس سے چاہتا ہے

**الْمُلْكَ هِنَّا نَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ نَشَاءُ ط**

---

اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشنا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوایر دیتا ہے

**بِيَدِكَ الْخَيْرُ طِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُوَلِّ الْيَلَ**

---

تمام تربھائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل

**فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّ النَّهَارَ فِي الْيَلِ وَتُخْرِجُ الْحَمَّ مِنْ**

---

کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد

**الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَمَّ وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ**

---

کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے

**بِغَيْرِ حِسَابٍ** [آل عمران: ۲۶، ۲۷]

بے حساب رزق عطا فرماتا ہے

**کاموں میں آسانی اور اللہ پر توکل کی دعا**

**حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ وَهُوَ رَبُّ**

میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی

**الْعَرْشُ الْعَظِيمُ** [التوبہ: ۱۲۹]

عرش عظیم کا مالک ہے

**والدین کے لیے رحمت کی دعا**

**رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا** [الاسراء: ۲۴]

یارب! جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی انکے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے

**آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا**

**رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ**

یارب! مجھے جہاں داخل فرم اچھائی کے ساتھ داخل فرم، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ

وَأَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَنًا نَّصِيرًا [الاسراء: ٨٠]

نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرماجس کے ساتھ (تیری) مدد ہو

### علمی ترقی کی دعا

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا [طہ: ١١٤]

میرے پروردگار! مجھے علم میں اور ترقی عطا فرماء

### حق فیصلہ طلب کرنے کی دعا

رَبِّ الْحُكْمَ إِلَّا حَقٌّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ

اے میرے پروردگار! حق کا فیصلہ کر دیجیے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو با تین تم

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ [الانبیاء: ١١٢]

بناتے ہو انکے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے

### عذاب الہی اور ظالموں سے بچنے کی دعا

رَبِّ إِمَّا تُرِيَّنِيْ مَا يُؤْعَدُونَ

پروردگار! جس عذاب کی دھمکی آنکوڈی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے

**رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ** [المؤمنون: ٩٤]

لے آئیں تو اے میرے پروردگار! مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیا گا

برے خواب اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا

**رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ**

میرے پروردگار! میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے

**رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ** [المؤمنون: ٩٧-٩٨]

پروردگار! میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں

## مناجات صائمین

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے

---

دُنیا و آخرت کی بھلائی اور جسم کے عذاب سے بچاؤ کی دعا

---

رَبَّنَا اتَّقَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

---

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی

---

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آلہ بکر: ۲۰۱]

---

اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے

---

## صبر، ثابت قدمی اور طلب نصرت کی دعا

**رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا**

اے ہمارے پروردگار! صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور

**عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ** [آل بقرہ: ۲۵۰]

ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمادے

## آیت الكرسی

**اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذْ لَهُ سِنَةً وَلَا**

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے جس کو

**تَوْمُرْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا**

کبھی اوپنگ لگتی ہے نہ نیند، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کون ہے

**الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ لَا يَأْدِنَهُ يَعْلَمُ مَا يَبْيَنَ أَيْدِيهِمْ**

جو اسکے حضور اسکی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے

وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

کے حالات کو خوب جانتا ہے اور وہ لوگ اسکے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لاسکتے

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ

سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے، انکی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گیرا ہوا ہے اور

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [آلہ البر ۲۵۵]

ان دونوں کی تکہیانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا عالمی مقام صاحب عظمت ہے

### اطاعت و مغفرت کی دعا

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَغُرْفَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

ہم نے (الله و رسول کے احکام کو توجہ سے) سن لیا ہے اور ہم خوشی سے (انکی) تمیل کرتے ہیں  
ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے

### انتہائی جامع ترین دعا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيَّنَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا

اے ہمارے پروردگار! اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے اور اے

**تَحِمِّلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ**

ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھنہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اور

**قَبِيلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِمِّلْنَا مَا لَا طاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ**

اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھنہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہماری

**عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا**

خطاؤں سے درگز رفرما یئے ہمیں بخشن دیجیے اور ہم پر رحم فرمایئے آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں

**عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ [البقرة ٢٨٦]**

اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے

**گمراہی سے بچنے اور طلب رحمت کی دعا**

**رَبَّنَا لَا تُرِغِّبْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا**

ہمارے رب تو نے ہمیں جو بدایت عطا فرمائی ہے اسکے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے

**مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا إِنَّكَ**

دوے اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیں کہ صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشن

**جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبٌ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا**

کی خوگر ہے ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جسکے آنے میں کوئی

**مُخْلِفُ الْمِيَعَادِ** [آل عمران: ۸-۹]

شک نہیں، بیشک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا

**گناہوں کی بخشش اور عذاب سے بچنے کی دعا**

**رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَأَافَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا**

ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اب ہمارے گناہوں کو بخشش دیجیے اور ہمیں

**عَذَابَ النَّارِ** [آل عمران: ۱۶]

دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے

**اقرار ایمان، اتباع رسول اور حق کی شہادت**

**وَيَنْهَا اللَّهُوں کے ساتھ کی دعا**

**رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَأَ إِيمَانًا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكُنْبُنَا**

ہمارے رب! آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی

## مَعَ الشَّهِيدِينَ [آل عمران: ۵۳]

ہے لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لجیے جو (حق کی) گواہی دینے والے ہیں

گناہوں کی معافی، صبر، ثابت قدی  
اور طلب نصرت کی دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

ہمارے پروڈگار! ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جزو یادتی ہوئی ہو اسکو بھی

أَقْدَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ [آل عمران: ۱۴۷]

معاف فرمادے ہمیں ثابت قدی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرمادے

اللہ کی کفایت اور وکالت کے حصول کی دعا

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ [آل عمران: ۱۷۳]

ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے

## دوزخ کے عذاب اور رسوائی سے بچاؤ کی دعا

**رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ**

ہمارے پروردگار! آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا آپ (ایسے فضول کام سے) پاک

**النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقُدْ أَخْزَيْتَهُ**

ہیں پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا بجیے ہمارے رب! آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں

**وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ** [آل عمران: ۱۹۲]

اسے آپ نے یقیناً رسوائی کر دیا اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے

## گناہوں سے معافی اور نیک انجام کی دعا

**رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ أَمِنُوا**

اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک منادی کو سماجو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر

**بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا قَرَبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا**

ایمان لا و چنانچہ ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے پروردگار! ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیکھیے

**سَيِّلَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَكْبَرِ** [آل عمران: ۱۹۳]

ہماری براہیوں کو ہم سے مٹا دیجیے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا جیئے

**وَعْدَهُ اللَّهِ كَيْ تَحْمِيلُ اُولَئِي رُوزِ قِيمَةٍ سَيِّلَاتِنَا وَتَوَفَّنَا**

**رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ**

ہمارے پروردگار! ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرما یے جو کہ وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم

**الْقِيمَةَ طَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَادَ** [آل عمران: ۱۹۴]

سے کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ تجھے یقیناً آپ وعدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے

**ظالم کے ظلم سے بچنے اور طلب نصرت کی دعا**

**رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا**

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں

**وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ**

اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی

**لَدُنْكَ نَصِيرًا** [النساء: ٧٥]

مدوگا کھڑا کر دیجیے

**حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ کی دعا**

**رَبَّنَا أَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ** [المائدۃ: ٨٣]

اے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجیے

**ظللم سے بچنے کی دعا**

**رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيلِينَ** [الاعراف: ٤٧]

اے ہمارے پروردگار! ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا

**صبر ثابت قدمی اور فرمانبرداری کی دعا**

**رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ** [الاعراف: ١٢٦]

پروردگار! ہم پر صبر کے پیانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں

## ظالم قوم کے فتنے سے بچنے کی دعا

**عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ**

اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش

**وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ** [یونس: ۸۵-۸۶]

میں نہ ڈالیے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے

## کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی دعا

**رَبَّنَا اتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيْئَةً لَنَا مِنْ**

ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں

**أَمْرِنَارَشَدًا** [الکھف: ۱۰]

ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرمادیجیے

## بخشش اور رحمت کی دعا

**رَبَّنَا أَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ**

اے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں [المؤمنون: ۱۰۹]

## رحمت و مغفرت کے حصول کی دعا

**رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ** [المؤمنون: ۱۱۸]

پروردگار! ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرمادے تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

## جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا

**رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا**

ہمارے پروردگار! جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے حقیقت یہ ہے کہ اسکا عذاب وہ

**كَانَ غَرَامًا** [الفرقان: ۶۵]

تابعی ہے جو چھٹ کرہ جاتی ہے

بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور  
اچھانمونہ و سربراہ بننے کی دعا

**رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ**

ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما

**وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا** [الفرقان: ۷۴]

اور ہمیں پرہیز گاروں کا سربراہ بنادے

فرشتوں کی اہل ایمان کے حق میں مغفرت، حصول جنت،  
برائی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا

**رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلّذِينَ**

ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے اسلئے جن لوگوں نے توہہ کر لی ہے اور

**تَابُوا وَاتَّبُعوا سَبِيلَكَ وَ قِهْمَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ**

تیرے راستے پر چل پڑے ہیں انکی بخشش فرمادے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے

**رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ إِلَّيْهِ وَعَذْلَهُمْ وَمَنْ**

اے پرو رہا گا! انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرماجس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے نیز

**صَلَحٌ مِنْ أَبَابِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرْرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ**

اکنے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی، یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ

**الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّاتِ**

ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل اور انکو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور

**[يَوْمَئِنِ فَقَدْ رَحْمَتَهُ وَذِلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ]** [غافر: ۹-۷]

اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا حم فرمایا اور یہی زبردست کامیابی ہے

**شکرِ نعمت، اعمال صالحہ کی توفیق  
اور اولاد کی اصلاح کی دعا**

**رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ إِلَّيْهِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ**

یا رب! مجھ تون فیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں

وَعَلَىٰ وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي

بُاپ کو عطا فرمائی اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور میرے لیے میری اولاد

**ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبَدِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ** [الاحقاف: ۱۵]

کو بھی صلاحیت دے دیجیں میں آپ کے حضور تو بہ کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں

### سواری پر سوار ہونے کی دعا

**سُبْحَنَ اللَّهِيْ سَمَّحَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ**

پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دید یا درنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ

**وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبِوْنَ** [الرخرف: ۱۴-۱۳]

اسکو قابو میں لا سکتے اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

### اہل ایمان اور اپنے لیے مغفرت و نخشش

اور کینہ و بغض دور کرنے کی دعا

**رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خُوَانِنَا اللَّهِيْ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ**

ہمارے پروردگار! ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے

**وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا لِلنَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ**

ایمان لا چک بیں اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کیلئے کوئی بغض نہ رکھیے اے ہمارے

**رَءُوفٌ رَّحِيمٌ** [الحشر: ۱۰]

پروردگار! آپ بہت شفیق، بہت مہربان ہیں

### روحانی ترقی اور مغفرت و بخشش کی دعا

**رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ**

ہمارے پروردگار! ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجیے اور ہماری مغفرت فرمادیجیے یقیناً آپ ہر

**شَيْءٍ قَدِيرٌ** [التحريم: ۸]

چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں

### حصول جنت کی دعا

**رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ** [التحريم: ۱۱]

میرے پروردگار! میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنادے

## ہر قسم کے جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی امراض کے لیے آیات شفاء

**وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ** [التوبۃ: ۱۴]

اور مومنوں کے دل ٹھہڑے کر دے

**يَا إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ**

لوگو تھارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور

**لِمَا فِي الصُّدُورِ لَوْهْدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ** [یونس: ۵۷]

دولوں کی بیماریوں کیلئے شفا ہے اور ایمان والوں کیلئے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے

**وَنُزِّلٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا**

اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں

**وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا** [الإسراء: ۸۲]

کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا

**وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ** [الشعراء: ٨٠]

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاء دیتا ہے

**قُلْ هُوَ لِلّٰهِ الْيَمِينُ اَمْنُوا هُدًى وَشِفَاءً** [حمد السجدہ: ٤٤]

کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائے ان کیلئے یہ بدایت اور شفا کا سامان ہے

جادو، نظر بد، حسد اور ہر قسم کے برے اثرات  
سے حافظت کے لیے

**قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝**

کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اسکے محتاج ہیں وہ کسی کا

**وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝** [سورة الإخلاص]

محتاج نہیں، نہ اسکی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں

**قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝**

کہہ کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور

**وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَتِ**

اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور ان جانوں کے شر سے جو (گندے کی) اگر ہوں

**فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝** [سورۃ الفلق]

میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

**قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ**

کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروڈگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے

**النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ لَا يُحَنَّى ۝ الَّذِي**

کے معبدوں کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بیچھے کو جھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے

**يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝**

دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنت میں سے ہو، یا انسانوں میں سے

خاتمه

---

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمٌ عَلَىٰ

تمہارا پروردگار عزت کا مالک، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں اور سلام ہو

---

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

پیغمبروں پر اور تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے

---

جادو، اثراتِ شیاطین و جن اور دیگر امراض سے شفایاں  
کے چند عملیات جو احادیث رسول ﷺ سے ثابت ہیں

① حضور ﷺ حضرات حسین بن علیؑ کے لیے اور  
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلامؑ اپنے بیٹوں حضرت اسماعیلؑ اور حضرت  
اسحاقؑ کے لیے یہ دعائیں نگاہ کرتے تھے:

**أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ  
هَامَّةٍ وَّ مِنْ عَيْنِ لَامَّةٍ** ﴿۲۷﴾ ترمذی

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے ہمہ گیر کلمات کی پناہ لیتا ہوں  
ہر شیطان اور زہر لیلی بلا کے شر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔

② تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا:  
(تین مرتبہ) **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** اور  
**أَعُوذُ بِعَزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ**  
ترجمہ: میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر  
سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں ﴿۱۳۳﴾ مشکوٰۃ

③ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا بڑے بچوں کو سکھایا کرتے اور چھوٹے بچوں کے لئے میں لکھ کر ڈال د کرتے تھے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَ  
شَرِّ عَبَادَةٍ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَجْخُذُونَ

ترجمہ: میں اللہ کے ہمہ گیر کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غصب و غصہ سے، اس کی پکڑ سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے کچکوں و سوسوں سے اور اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ ﴿ابوداؤد / ۱۸۷، ترمذی / ۲۹۱﴾

④ مریض پر داہنا ہاتھ پھیرتا جائے اور یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ أَدْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ  
الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً

ترجمہ: اے اللہ! تکلیف کو دور فرما، اے لوگوں کے پروردگار اس بیمار کو شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفائنہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ

ربنے دے۔

﴿ مسلم ۲۲۲ / ۲ ﴾

⑤ یہ دعا پڑھ کر دم کرے:

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ يَشْفِي كُلَّ دَاءٍ فِينَكَ وَمِنْ**

**شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ**

ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں

اور اللہ ہی تجھ کو شفادے گا ہر اس بیماری سے جو تیرے اندر ہوا اور

چھاڑ پھونک کرنے والی عورتوں کے شر سے اور ہر حسد کرنے

والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ ﴿ابن ماجہ ۲۶۰﴾

⑥ جس شخص نے بھی کسی ایسے مریض کی عیادت کی جو

کی موت نہ آئی ہو اور یہ درج ذیل دعاسات مرتبہ کی تو اللہ تعالیٰ

اس مریض کو اس مرض سے ضرور شفادے دیں گے:

**أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ**

ترجمہ: میں خدائے بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا

مالک ہے کہ وہ تجھے شفادے دے۔ ﴿ابوداؤد ۸۶ / ۲﴾

⑦ سورہ فلق اور سورہ ناس (معوذین) پڑھ کر دم کرنا۔